

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کارائے عامہ سروے موضوع: "صحت کی دیکھ بھال" "عمومی صحت اور صحت کی دیکھ بھال"

عمومی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے ذرائع: ہر 10 میں سے 7 سے زائد پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ روایتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ایک چوتھائی پاکستانی اس کے متبادل ذرائع جیسے کہ حکیم اور ہومیوپیتھی سے علاج کرواتے ہیں:


(گیلپ & گیلانی پاکستان پول)،

اسلام آباد، 12 مارچ، 2019

گیلپ & گیلانی پاکستان کے ایک حالیہ سروے کے مطابق، ہر 10 میں سے 7 سے زائد پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ روایتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ایک چوتھائی پاکستانی اس کے متبادل ذرائع جیسے کہ حکیم اور ہومیوپیتھی سے علاج کرواتے ہیں۔

سروے میں ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب خواتین و حضرات سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ، "آپ عام طور پر کس سے علاج کرواتے ہیں؟"۔ اس سوال کے جواب میں 71% جوابدہندگان کے مطابق وہ عام طور پر ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، 16% جوابدہندگان کے مطابق وہ عام طور پر حکیم سے علاج کرواتے ہیں، جبکہ 8% جوابدہندگان کے مطابق وہ عام طور پر ہومیوپیتھی سے علاج کرواتے ہیں، تاہم 5% جوابدہندگان نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔

"آپ عام طور پر کس سے علاج کرواتے ہیں؟"



Source: Gallup & Gilani Pakistan Poll

Field work conducted by Gallup & Gilani Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association
(www.gallup-international.com; www.gallup.com.pk; www.gilanifoundation.com)

اس سروے سے صحت کی دیکھ بھال کے متبادل ذرائعوں / ادویات کی بڑھتی قابل ذکر مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جہاں پر تقریباً 250 لاکھ بالغ افراد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے ان طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ادویات کا استعمال کرنے والے صارفین کی کل تعداد میں سے، اکثریت ان افراد کی بھی ہو سکتی ہے جو کہ دونوں یعنی ایلیوپیتھی / ڈاکٹری ادویات کے ساتھ ساتھ متبادل ادویات کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ گیلپ پاکستان صحت کی دیکھ بھال کی سہولیت تک رسائی سے متعلق رجحانات کا جائزہ لے رہا ہے اور مزید تفصیلات کے لیے گیلپ ہسٹری پراجیکٹ ملاحظہ کریں۔

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا حالیہ سروے گیلپ انٹرنیشنل سے منسلک گیلپ اور گیلانی پاکستان کی مدد سے کیا گیا۔ یہ سروے پاکستان کے چاروں صوبوں کی دیہی و شہری آبادی کے 1142 مرد و خواتین سے 24 جنوری تا 28 جنوری 2019 میں منعقد ہوا۔ غلطی کے امکان کا تخمینہ شماریاتی طور پر 95% اعتماد کے ساتھ تقریباً ±2-3% لگایا گیا ہے۔



Opinion Poll from Gallup & Gilani Pakistan

The Pakistani Affiliate of Gallup International



Tuesday, March 12, 2019

(2 Pages, Urdu version Only)

Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to provide social science research to students, academia, policy makers and concerned citizens in Pakistan and across the globe.

Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr. Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup Pakistan.

If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.

Best Regards,

Ms. Fatima Idrees

Phone: +92-51-2655630

E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup International Association see website: www.gallup-international.com

Disclaimer: Gallup Pakistan and Gilani Research foundation are a nonpartisan fact tank and think tank respectively. As a neutral source of data and analysis, both organizations do not take policy positions.



Daily Gilani Poll
2019



of Gallup Pakistan
(1980-2019)